

برائے فوری اجراء

برامپٹن نگہداشت صحت کے لیے صوبے سے ایک منصفانہ حصے کا مطالبہ کر رہا ہے

رہائشی ایک پٹیشن پر دستخط کر کے، اپنی نگہداشت صحت کے حوالے سے کہانی شریک کر کے اور اس سال کے آخری حصے میں کونینز پارک میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر قدم اٹھا سکتے ہیں۔

برامپٹن، آن (18 جون 2019) – برامپٹن میں نگہداشت صحت ہمیشہ سے فنڈز کی کمی کی شکار رہی ہے۔ گنجائش سے زیادہ رش اور رابداریوں میں علاج برامپٹن کے ہسپتالوں میں عام دیکھنے میں آتا ہے۔ اب سٹی آف برامپٹن صوبہ اونٹاریو سے اپنے شہر میں نگہداشت صحت کے لیے فوری فنڈنگ کا مطالبہ کر رہا ہے۔

ہم نے بروز ہفتہ، 15 جون کو برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاحی دن پر نگہداشت صحت کے لیے باضابطہ طور پر FairDealForBrampton مہم شروع کر دی ہے اور اس میں شامل ہونے کے کئی طریقے ہیں۔

اصل مسئلہ

برامپٹن کے رہائشی ہماری کمیونٹی میں فنڈز کی کمی کی شکار نگہداشت صحت کا اثر محسوس کر رہے ہیں۔

- صوبائی اوسط کی نسبت، برامپٹن کو نگہداشت صحت کی مد میں فی شخص \$1,000 کم رقم موصول ہوتی ہے
- برامپٹن میں اونٹاریو کے دیگر شہروں کی نسبت 55 فیصد کم ہسپتال کے بستر دستیاب ہیں
- برامپٹن کو توضیحی طور پر بڑھوتری کا سامنا ہے – ہر سال 14,000 لوگ برامپٹن میں منتقل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی آبادی کو خدمات فراہم کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے مزید وسائل درکار ہیں

ہمارا مطالبہ

برامپٹن کو نگہداشت صحت کے لیے منصفانہ حصے کی ضرورت ہے۔ ہم صوبے سے نگہداشت صحت کی درج ذیل ضروری خدمات اور ہمارے شہر کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

- پیل میموریل سنٹر کے ارجنٹ کیئر سنٹر میں آنے والے افراد کے بڑھتے ہوئے حجم کو سنبھالنے کے لیے فوری فنڈنگ فراہم کی جائے
- پیل میموریل سنٹر کے فیز 2 کی تکمیل کے لیے فنڈ فراہم کیا جائے
- برامپٹن میں نگہداشت صحت کی تیسری سہولت گاہ تعمیر کی جائے

قدم اٹھائیں

ایک ساتھ مل کر، ہم صوبے سے اقدامات کرنے کا تقاضہ کر سکتے ہیں۔ آپ قدم اٹھانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔

- پٹیشن پر دستخط کریں۔ پٹیشن اب برامپٹن ریکریٹیشن سنٹرز، لائبریریوں اور سٹی ہال میں دستیاب ہے۔ یہ ہر اتوار کو برامپٹن کی فارمرز مارکیٹ اور خصوصی تقریبات، مثلاً 1 جولائی کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے، پر بھی دستیاب ہو گی۔ [پٹیشن کے مقامات کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)
- کونینز پارک میں اپنی آواز اٹھائیں۔ اس سال کے آخری حصے میں، ہم برامپٹن کے باسیوں کی بڑی تعداد کو کونینز پارک میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صوبہ سمجھتا ہو کہ ہمیں برامپٹن کے لیے ایک منصفانہ حصے کی ضرورت ہے۔ [شامل ہونے کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

- اپنی کہانی شریک کریں۔ رہائشی ہماری [ٹویبون مہم](#) کو فالو کر کے، سوشل میڈیا پر #FairDealForBrampton کا بیش ٹیگ استعمال کر کے، ہمارے [فیس بک گروپ](#) میں دوسروں کے ساتھ تعامل کر کے اور ہمیں FairDealForBrampton@brampton.ca پر ہمیں ای میل کر کے اپنی برامپٹن کی نگہداشت صحت کی کہانی شریک کر سکتے ہیں۔

مکمل تفصیلات www.FairDealForBrampton.ca پر دستیاب ہیں۔

اقتباس

"برامپٹن کا نگہداشت صحت کا نظام ہمیشہ سے ہی فنڈز کی کمی کا شکار رہا ہے اور ہمارے رہائشی اور نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان اس سے بہتر چیزوں کے حقدار ہیں۔ ایک صحت مند اور محفوظ شہر کے طور پر، برامپٹن کو اپنی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کو خدمات فراہم کرنے کے لیے مزید فنڈنگ اور وسیع تر وسائل درکار ہیں۔ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اور صوبے سے منصفانہ حصے کے مطالبے میں سب کو شامل کر رہے ہیں۔ ہماری پٹیشن پر دستخط کرنا اور #FairDealForBrampton کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپنی کہانی شریک کرنا یقینی بنائیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca